



## سوال

(490) کیا زندگی میں کسی کا بیعت ہونا ضروری ہے؟

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

کیا زندگی میں کسی کا بیعت ہونا صحیح ہے؟ جیسے عموماً لوگ پیرومرشد پکڑتے ہیں بیعت ہونا صحیح ہے یا نہیں؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

محض پیری مریدی کی بیعت کا شرع میں کوئی وجود نہیں بیعت کا اصل تعلق نبی کی ذات سے ہوتا ہے۔ جو اللہ کے ساتھ پابندی عہد کی صورت میں ضمانت ہے یا پھر خلافت کی صورت میں جو اس کا قائم مقام ہو اس کی بیعت ہوتی ہے اس کے علاوہ اسلام میں بیعت کا کوئی تصور نہیں اگر اس کا کوئی وجود ہوتا تو۔ «قرون مفضلة» اس کے زیادہ حقدار ہوتے جبکہ ان میں اس کا نام و نشان تک نہیں ملتا لہذا یہ۔

«کل محدثہ بدعت» کے زمرہ میں شامل ہے۔

هذا ما عندي واللہ اعلم بالصواب

فتاویٰ شناسیہ مدنیہ

ج 1 ص 775

محدث فتویٰ